



اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، تاہم انہوں نے صبر کیا

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب حنین کا معرکہ پیش آیا، تو رسول اللہ نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو ترجیح دی۔ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو سو اونٹ عطا فرمائے اور عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہ کو بھی اتنا ہی مال عطا فرمایا۔ آپ نے عرب کے معزز لوگوں کو مال عطا فرمایا اور انہیں اس دن تقسیم میں ترجیح دی، تو ایک آدمی نے کہا: اللہ کی قسم! یہ ایسی تقسیم ہے، جس میں عدل نہیں کیا گیا اور اس تقسیم سے اللہ کی رضا کا قصد نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں یہ بات رسول اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو وہ بات بتائی، جو اس آدمی نے کہی تھی۔ اس پر آپ نے کہا: مبارک متغیر ہو کر سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے، تو پھر کون عدل کرے گا؟ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا! میں نے (اپنے جی میں) کہا: آئندہ میں ایسی بات آپ کو نہیں بتایا کروں گا۔“

[صحیح] [متفق علیہ]

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بنا رہے ہیں کہ وہ غزوہ حنین میں تھے۔ یہ غزوہ طائف سے ہوئی، جو فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ رسول اللہ نے اہل طائف کے ساتھ جنگ کی اور ان سے آپ کو اونٹوں، بھیڑ بکریوں اور درہم و دینار کی شکل میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ پھر آپ نے مقام جعرانہ پر پڑاؤ کیا۔ یہ طائف کی سمت میں حرم کی حدود کے اختتام پر واقع ایک جگہ ہے۔ آپ نے اس جگہ پڑاؤ کیا اور مال غنیمت کو اس غزوہ کے شرکا کے مابین تقسیم کیا۔ آپ نے اقرع بن حابس کو سو اونٹ دیے اور عیینہ بن حصن کو بھی سو اونٹ دیے اور عرب کے معزز لوگوں کو بھی مال سے نوازا۔ اس سے آپ کی غرض انہیں اسلام کے ساتھ مانوس کرنا تھا؛ کیوں کہ اگر تحفہ تحائف اور مال دینے سے ان لوگوں کا اسلام ٹھیک ہو جاتا، تو ان کے پیروکاروں خود بخود اسلام قبول کر لیتے اور اس سے اسلام کو قوت اور شان و شوکت حاصل ہوتی۔ جن کا ایمان مضبوط تھا انہیں آپ نے مال نہ دیا؛ کیوں کہ آپ کو ان کے ایمان پر اعتماد تھا۔ ایک آدمی نے جب دیکھا کہ نبی کے قبائل کے سرداروں اور معززین قوم میں مال تقسیم کرتے جارہے ہیں اور کچھ لوگوں کو مال نہیں دے رہے، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم! اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس سے مقصود اللہ کی رضا جوئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، تو وہ جلدی سے نبی کے پاس آئے اور ان سے پہلے قسم کھائی کہ وہ ضرور آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جب انہوں نے نبی کو اس کی خبر دی، تو آپ نے سخت غصہ میں آگئے اور آپ کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو کر خالص سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے، تو پھر عدل کون کرے گا؟ یعنی آپ نے اس کی اس بات پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ کی یہ حالت دیکھی، تو دل ہی دل میں تڑپ کر لیا کہ اگر میں ان لوگوں سے کوئی ایسی ناگوار بات سنوں گا، تو نبی کو ہرگز نہ بتاؤں گا؛ کیوں کہ انہوں نے دیکھا لیا تھا کہ آپ کو اس پر بہت غصہ آیا۔ بشرطیکہ کوئی ایسی بات نہ ہو، جس کی وجہ سے نبی یا اسلام کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

